



معمولات زندگی کو 30 جون کو بحفاظت طور پر دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن صوبے کے روڈ میپ کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاری ہے

برامپٹن، آن (24 جون 2021) – حکومت اونٹاریو کے آج کے اعلان کے بعد سٹی آف برامپٹن بروز بدھ، مورخہ 30 جون کو رات 12:01 کے بعد، معمولات زندگی کو بحفاظت طور پر دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے صوبے کے روڈ میپ کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اس خوشگوار مرحلے کا اعلان عوامی صحت کے مظاہرات میں دیکھی جانے والی مسلسل بہتری اور پبلک ہیلتھ یونٹس کی شراکت داری میں صوبے کی جانب سے ویکسین لگانے کے قابل تعریف عمل، صحت کی دیکھ بھال کے شراکت داروں، میونسپلٹیوں اور ہماری کمیونٹی کی مسلسل کاوشوں کی بدولت اپنے طے شدہ شیڈول سے دو دن پہلے کیا جا رہا ہے۔

مورخہ 30 جون سے دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے صوبے کے روڈ میپ کے دوسرے مرحلے کے تحت درج ذیل قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا:

- بیرونی سماجی اجتماعات اور منظم شدہ عوامی تقریبات 25 افراد تک کے لیے
- اندرونی سماجی اجتماعات اور عوامی تقاریب پانچ افراد تک کے لیے
- بیرونی جگہ پر کھانے کے لیے ہر میز پر چھ افراد کی حد
- ضروری پرچون فروشوں کو گنجائش کی 50 فی صد کی اجازت
- غیر ضروری پرچون فروشوں کو گنجائش کی 25 فی صد اجازت
- بڑے اندرونی مذہبی اجتماعات، رسومات یا تقریبات بشمول شادی کی خدمات اور تجہیز و تکفین کی سروسز، 25 فی صد پر رہیں گی جبکہ بیرونی جگہوں پر اُنٹے لوگوں کی موجودگی کی اجازت ہو گی جو آپس میں 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ سکیں۔
- اوور نائٹ کیمپس
- ذاتی نگہداشت کی سروسز کو گنجائش کے 25 فیصد تک کام کرنے اور زیادہ سے 5 افراد کی اجازت ہو گی، ہر وقت ماسک پہننا اور اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہو گا۔
- بیرونی ملاقاتوں اور تقریبات کی جگہوں پر گنجائش کے 25 فی صد تک کی اجازت ہو گی جبکہ اندرونی مقامات پر ملاقاتوں اور تقریبات کی جگہیں بند رہیں گی
- بیرونی تفریح اور واٹر پارکس گنجائش کے 25 فی صد تک محدود ہوں گے
- بیرونی فٹنس کلاسوں کی اتنی اجازت ہو گی جب تک لوگ آپس میں 3 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ سکیں
- بغیر جسمانی رابطوں کے کھیل یا ان میں ایسی پابندیوں کے ساتھ ترمیم کرنا کہ رابطوں سے بچا جا سکے
- بیرونی کھیلوں کی لیگز، گیمز اور تقریبات 25 فی صد تک محدود رہیں گی
- اندرونی کھیلوں کی لیگز، گیمز اور تقریبات کی اجازت نہیں ہو گی لیکن پروفیشنل ایٹھلیٹس/گروپس/ڈے کیمپس وغیرہ کے لیے چھوٹ موجود ہو گی۔
- بیرونی سنیما، فنون کے مظاہرے، لائو موسیقی کی تقریبات اور پرکشش مقامات 25 فی صد تک محدود ہوں گے

صوبے کی جانب سے دوبارہ کھولنے کے روڈ میپ کا منصوبہ تین مراحل پر مشتمل ہے، جس کے مطابق صوبے کو محتاط طریقے سے دوبارہ کھولا جائے گا اور صوبہ بھر میں ویکسینیشن کی شرح اور صحت عامہ اور صحت کی دیکھ بھال کے اہم اشاریوں میں بہتری کی بنیاد پر صحت عامہ کے اقدامات میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔

صوبے کی جانب سے نیوز ریلیز یہاں پڑھیں۔

سٹی کی سروسز اور سہولیات

دوسرے مرحلے میں دستیاب ہونے والی سٹی کی اوٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں میں میں گالف کورسز اور ڈرائیونگ رینجز، سوسر اور دیگر کھیلوں کے میدان، بیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، لان بولنگ اینڈ بوسی، BMX اور اسکیت پارکس اور ویڈنگ پولز و سہولتیں شامل ہیں۔ پروفیسرز لیک بیچ اور ایڈی راٹو پارک کے اوٹ ڈور پول کو اس موسم میں 30 جون سے کھولا جائے گا، اگر موسم اور پانی کے حالات اجازت دیں تو۔

سٹی کی خصوصی سہولت گاہوں کے حوالے سے دوبارہ کھولے جانے کے اوقات اور کووڈ-19 کی صحت و تحفظ کے اقدامات کی



تفصیلات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پولز
سٹی سپلیش پیڈز کو روزانہ صبح 10 سے رات 9 بجے تک کھولا جائے گا۔ چنگواکوسی پارک ویڈنگ پول کو 26 جون سے روزانہ صبح 10 رات 8 بجے تک کھولا جائے گا، اگر موسم اجازت دے۔ جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنا لازمی ہو گا اور رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جانے سے قبل وہ اپنی کووڈ-19 کی علامات پر خود بھی نظر رکھیں۔ سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پولز کے مقامات اور اوقات کار کی فہرست یہاں دستیاب ہے۔

سمر کیمپس بالمشافہ کیمپس

بچوں اور نوجوانوں کے لیے بالمشافہ سمر کیمپس 5 جولائی سے شروع ہوں گے۔ رجسٹریشن ابھی بھی آن لائن طور پر www.brampton.ca/reccamps پر دستیاب ہے۔ ان کیمپوں میں گیمز، اسپورٹس، دستکاریوں اور مزید کئی اقسام کی سرگرمیاں، پیر سے جمعہ تک صبح 8:45 سے شام 5:15 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ 2 اگست کا ہفتہ، عوامی چھٹی کی وجہ سے شارٹ اینڈ ویک کے طور پر رکھا گیا ہے۔۔ فیسیں مختلف ہیں۔ 311 پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے www.brampton.ca/reccamps ملاحظہ کریں۔
ورچوئل کیمپس

ورچوئل کیمپس میں 4 سے 6 سال اور 6 سے 10 سال تک عمر کے بچوں کو نئی دوستیاں بنانے، سماجی مہارتوں میں اضافے اور اپنی مرضی کی رفتار کے ساتھ دلچسپ پروجیکٹس پر کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ بھی ہمہ وقت مربوط رہتے ہیں۔ انکلوژن ورچوئل کیمپس 6 سے 13 اور 14 سے 20 سال عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ تمام پروگراموں کو WebEx پلیٹ فارم کی مدد سے سٹی آف برامپٹن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز پیش کریں گے۔ رجسٹریشن کا عمل www.brampton.ca/recathome پر دستیاب ہے۔

ویکسینیشن

کوئی بھی شخص جو پیل میں رہتا ہو، کام کرتا ہو یا اسکول جاتا ہو اور 12 سال کا یا اس سے زائد عمر کا ہو، تو وہ اپنی پہلی ڈوز کی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتا۔
پہلی اور دوسری ڈوز کے درمیان 18 یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے 28 دن جبکہ 12 سے 17 سال عمر کے لوگوں کے لیے کم از کم 8 ہفتوں کا وقفہ لازمی ہو گا۔
27 جون سے، 12 سے 17 سالہ نوجوان اپنی اپوائنٹمنٹ بک یا ری شیڈیول کرا سکتے ہیں۔
کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم صوبائی [ویکسین پورٹل](http://www.brampton.ca/vax) ملاحظہ کریں۔
لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](#)
- [سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت](#)
- [خود کو انسولٹی کیسے کریں](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [پیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca